



سیزن 2021-22 میں 3822 کلبز کے مابین 7009 میچز کھیلے گئے

لاہور، 25 اپریل 2022ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیزن 2021-22 میں بھی چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کی ترقی اور فروغ کی معاونت کے لیے بھرپور اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا۔

تفصیلات کے مطابق حالیہ مکمل ہونے والے سیزن میں چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز نے پی سی بی کے اشتراک سے مجموعی طور پر 7009 میچز منعقد کروائے۔ ان میچز میں چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کے کل 3822 کرکٹ کلبز نے شرکت کی۔

اس دوران تمام کرکٹ ایسوسی ایشنز نے اپنی اپنی کرکٹ لیگز منعقد کروائیں، جو اکتوبر 2021 سے فروری 2022 کے درمیان کھیلی گئیں۔ ان لیگز کا مقصد دیہی اور شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو ایک واضح نظام کے تحت ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت کے مواقع فراہم کرنا تھا۔

اس ضمن میں خیبر پختونخواہ کرکٹ ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار سب سے بہترین رہے، جہاں 13 نومبر 2021 سے 20 جنوری 2022 تک کھیلی جانے والی کرکٹ لیگ میں 844 کلبز کے مابین 1530 میچز کھیلے گئے۔

سینٹرل پنجاب اور سندھ میں کھیلی گئی کرکٹ لیگز میں بالترتیب 788 اور 670 کرکٹ کلبز نے شرکت کی۔ ان کلبز کے مابین سینٹرل پنجاب میں 1482 جبکہ سندھ میں 1172 میچز کھیلے گئے۔

سدرن پنجاب میں کھیلے گئے 1100 میچز میں 517 کلبز نے شرکت کی۔ بلوچستان اور ناردرن میں 512 اور 491 کرکٹ کلبز میں بالترتیب 700 اور 1025 میچز کھیلے گئے۔

بلوچستان، سینٹرل پنجاب، ناردرن، سندھ اور سدرن پنجاب میں کرکٹ لیگز 20 اکتوبر 2021 سے شروع ہوئی تھیں۔

ندیم خان، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس:

ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کلب کرکٹ کا کردار بہت اہم ہے، لہذا انہوں نے چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز میں گراس روٹ کرکٹ کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کیا۔

انہوں نے کہا کہ وہ ان میچز کے انعقاد کو یقینی بنانے پر تمام کرکٹ ایسوسی ایشنز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پی سی بی آئندہ بھی نوجوان اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو کرکٹ کھیلنے کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لئے تمام چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا خواہشمند ہے۔

کلب کی سطح پر کھیل کی ترقی کے لئے پی سی بی آئندہ چند ماہ سکروٹٹی کا ایک آزاد عمل جاری رکھنے کا اعلان کرچکا ہے۔

اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ، سینٹرل پنجاب اور سدرن پنجاب میں اسکول کرکٹ لیگز کے انعقاد کے ذریعے اسکول کے بچوں کو بھی کھیل کے دھارے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس سلسلے میں صرف خیبر پختونخواہ میں اسکولز کی 300 ٹیموں نے شرکت کی۔ 7 اکتوبر سے 8 نومبر تک جاری رہنے والی اس لیگ میں 565 میچز کھیلے گئے۔

سدرن پنجاب اسکولز لیگ میں 184 ٹیموں کے مابین 295 میچز کھیلے گئے۔ یہ ٹورنامنٹ 15 نومبر 2021 سے 5 جنوری 2022 تک جاری رہی۔

سینٹرل پنجاب کی اسکولز لیگ میں 162 اسکولز کے درمیان اب تک 458 میچز کھیلے جاچکے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ اب بھی جاری ہے۔

چند روز قبل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے سینٹرل پنجاب ویک اینڈ اسکولز چیمپئن 2021-22 کے فائنل میں دار ارقم نے ڈویژنل پبلک اسکول فیصل آباد کو شکست دے کر ٹائٹل جیتا۔ یہ میچز پی ٹی وی اسپورٹس اور پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا۔

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan.

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.

The PCB's mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all.

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women's game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan.

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

HELP PREVENT CORONAVIRUS
Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre

- WASH HANDS THOROUGHLY
- KEEP YOUR DISTANCE
- AVOID CROWDED PLACES
- WEAR A MASK
- COUGH & SNEEZE INTO A TISSUE OR ELBOW
- STAY HYDRATED
- STAY AT HOME IF YOU FEEL ILL

Commercial Partners

- pepsi
- TCL
- PAKVIEW CITY

Broadcast & Live Streaming Partners

- TV
- Daraz
- SuperSport
- FLOW SPORTS
- sky SPORT
- sky SPORTS
- WILLOW

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium, Ferozpur Road Lahore, Pakistan, PO Box 54000
Tel: +92 42 35717231-4

pcb.com.pk | /PakistanCricketBoard | /TheRealPCB | /TheRealPCB | /PakistanCricketOfficial